



UNIVERSITY OF THE PUNJAB

M. Ed. (General & Science) :- Annual 2021

Subject: Foundation of Education

Paper: 1

Roll No.

Time: 3 Hrs. Marks: 100

Note: Attempt any FIVE questions. All questions carry equal marks.

نوٹ: کوئی سے پانچ سوال حل کریں۔ تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں

Q-1. What is meant by Educational Philosophy? What is the application principles of Educational Philosophy for prospective teachers (5+15).

تعلیمی فلسفہ سے کیا مراد ہے؟ ممکنہ اساتذہ کے لیے تعلیمی فلسفہ کے اطلاق کے اصول کیا ہیں؟

Q-2. Explain the Philosophical Concepts of Idealism with reference to the following aspects

(a) Objectives of education (b) Curriculum (c) Concept of Discipline (d) Teaching methodology (4*5)

فلسفہ تصورات کی وضاحت درج ذیل پہلوؤں کے حوالے سے کریں۔ (ا) تعلیم کے مقاصد (ب) نصاب (ج)

نظم و ضبط کا تصور (د) تدریسی طریقہ کار

Q-3. Discuss in detail the contribution of Allama Muhammad Iqbal as educational thinker of Education in Pakistan. (20)

پاکستان میں تعلیمی مفکر کی حیثیت سے علامہ محمد اقبال کی شراکت پر تفصیلی گفتگو کریں

4. Define Education. Discuss the role of school as a Social institution. (5+15)

تعلیم کی تعریف کریں۔ ایک سماجی ادارے کے طور پر سکول کے کردار پر بحث کریں۔

Q-5. What is meant by Economic foundations of Education? Explain in detail the Economic benefits of Education for the development of a country.(5+15)

تعلیم کی معاشی بنیادوں سے کیا مراد ہے؟ کسی ملک کی ترقی کے لیے تعلیم کے معاشی فوائد کی تفصیل سے وضاحت کریں

Q-6. What is role of Lord Macaulay in the education of India? What is the impact of Macaulay Report on the education of Indians (10+10)

ہندوستان کی تعلیم میں لارڈ میکالے کا کیا کردار ہے؟ ہندوستانیوں کی تعلیم پر میکالے رپورٹ کا کیا اثر ہے؟

Q-7. Discuss in detail the salient recommendations of 1978 Education Policy and to what extent they were implemented.(10+10)

1978 کی تعلیمی پالیسی کی اہم سفارشات اور ان پر کس حد تک عمل درآمد کیا گیا اس پر تفصیلی بحث کریں۔

Q-8. Write short notes on two of the following (10+10)

(a) Formal education (b) Principles of classroom management and discipline (c) Concept of reward and punishment suggested by Ibne Khuldoon

درج ذیل میں سے دو پر مختصر نوٹ لکھیں۔

(ا) رسمی تعلیم (ب) کلاس روم مینجمنٹ اور نظم و ضبط کے اصول (ج) ابن خلدون کے تجویز کردہ انعام اور سزا کا

تصور



UNIVERSITY OF THE PUNJAB

M. Ed. (General & Science) :- Annual 2021

Roll No.

Subject: Educational Administration (Group A) (General)
Paper: 7 & 8 (1) Educational Law

Time: 3 Hrs. Marks: 100

Note: Attempt any FOUR questions. All questions carry equal marks.

نوٹ: کوئی سے چار سوال حل کریں۔ تمام سوالات کے نمبر برابر ہیں۔

- Q.1. Define administration. According to Henry Fayol what are the basic function of an administration? (25)
سوال نمبر: 1 ایڈمنسٹریشن کی تعریف کریں۔ ہیئری فیول کے مطابق ایڈمنسٹریشن کے بنیادی افعال کیا ہیں؟
- Q.2. Write down the different types of organization. Highlight the major challenges which are faced by educational organizations. (25)
سوال نمبر: 2 تنظیم کی مختلف اقسام لکھیں۔ تعلیمی تنظیموں کو سامنا کرنے والے چیلنجز بیان کریں۔
- Q.3. Differentiate between supervision and control. Why supervision is important in educational institution? (25)
سوال نمبر: 3 نگرانی اور کنٹرول میں فرق واضح کریں۔ مختلف تعلیمی اداروں میں نگرانی کی اہمیت بیان کریں۔
- Q.4. How authority plays a vital role to develop effectiveness and efficiency in an educational institution? (25)
سوال نمبر: 4 کسی بھی تعلیمی ادارے کی کارکردگی اور تاثیر میں اتھارٹی کس طرح اثر انداز ہوتی ہے؟
- Q.5. Define power. Explain the different sources of power in detail. (25)
سوال نمبر: 5 پاور کی تعریف کریں۔ پاور کے مختلف ذرائع تفصیل سے بیان کریں۔
- Q.6. State rules and process for ex-Pakistan leave as per Punjab Education Code. (25)
سوال نمبر: 6 پنجاب ایجوکیشن کوڈ کے مطابق پاکستان سے باہر جانے کی چھٹی کے قوانین اور عمل بیان کریں۔
- Q.7. Differentiate between organization and enterprise. And discuss the structure of educational enterprise. (25)
سوال نمبر: 7 آرگنائزیشن اور انٹرپرائز میں فرق بیان کریں۔ ایجوکیشن انٹرپرائز کا اسٹرکچر بیان کریں۔